

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن، پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کا پہلا پلان سامنے لے آیا ہے

برامپٹن، آن (4 مئی 2022) – آج، برامپٹن سٹی کونسل نے 2022 تا 2027 تک کے لیے اپنے پہلے پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پلان کی توثیق کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی متاثر کن پرفارمنگ آرٹس کمیونٹی کی تعمیر کا ویژن ہے جو برامپٹن کے جذبات اور تنوع کی عکاسی کرتا ہے اور یہ فریم ورک ہمیں اپنے روشن مستقبل کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کرے گا اور سٹی آف برامپٹن کی وسیع تر ترجیحات اور اہداف کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو گا۔

حکمت عملی کے اس منصوبے نے تین ایسے رہنماء اصولوں کی نشاندہی کی ہے جو آگے چل کر ہمارے کام کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کریں گے، اور ان میں تنوع اور شمولیت، شہر بھر میں کیمپس اور کمیونٹی کی تعمیر شامل ہیں۔

حکمت عملی کا یہ منصوبہ ہماری حکمت عملی کی چار ترجیحات پر توجہ مرکوز کرتا ہے:

- **کمیونٹی پروگرامنگ اور کم اعانت یافتہ طبقات کی رسائی میں اضافہ۔** پرفارمنگ آرٹس پروگرامنگ کے اس ماڈل کو یہ بات یقینی بنانے کے لیے عملی جامہ پہنایا جائے گا کہ یہ ہر طرح کے سامعین اور تخلیق کاروں کے لیے خوش آئند اور متعلقہ ہو۔ یہ مقصد فنون لطیفہ کے ایکو سسٹم میں اور اس کے علاوہ فنکاروں اور تخلیق کاروں، کمیونٹی پارٹنرز، نئے اور موجودہ سامعین اور شہر کے دیگر شعبوں سمیت مقامی کمیونٹی کے ساتھ معاون اور دیرپا تعلقات استوار کرنے سے پورا کیا جائے گا۔
- **مساوات، تنوع، شمولیت اور رسائی کو وسعت دینا۔** پرفارمنگ آرٹس ڈویژن ایک مکمل ایکویٹی فریم ورک اور ایکشن پلان بنائے گا جس میں پالیسی، پروگرامنگ، سامعین کی رغبت، مارکیٹنگ اور معاشرے کے کم اعانت یافتہ افراد کی رسائی کو ممکن بنانے جیسے اہداف شامل ہیں۔
- **پرفارمنگ آرٹس کے تمام مقامات پر ہموار مارکیٹنگ، مواصلات اور ویب سائٹ پر سرمایہ کاری کرنا** شہر کی اعلیٰ صلاحیت، کثیر المقاصد سہولت گاہیں، وسائل اور خدمات کمیونٹیز کے لیے پرفارمنگ آرٹس کے تجربات کی ایک وسیع رینج پیش کرتی ہیں۔ پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں کو ایک دوسرے سے منسلک، ملٹی وینیو کیمپس کے طور پر سامنے لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا تاکہ ڈویژن کے شہر بھر میں اثرات کو بہتر انداز میں ظاہر کیا جا سکے اور تمام مقامات پر استعمال کو فروغ دینے کے لیے درکار اضافی معاونت کی سہولت بھی فراہم کی جا سکے۔
- **تنظیمی لچک پیدا کرنا۔** تنظیم کی آپریشنل ضروریات کا جائزہ لینا، بشمول عملہ اور مالی وسائل اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آمدنی کے نئے وسائل اور فنڈنگ کے ذرائع کو بہتر بنانا یا نئے وسائل و ذرائع تیار کرنا۔

پرفارمنگ آرٹس کی ٹیم اگلے پانچ سالوں میں اسٹریٹجک پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تفصیلی اور مرحلہ وار روڈ میپ استعمال کرے گی۔ پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پلان دیکھنے کے لیے [brampton.ca/performingarts](http://brampton.ca/performingarts) پر جائیں۔

### اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کے پرفارمنگ آرٹس کے مقامات وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے شہر میں پرفارمنگ آرٹس زندہ ہیں، اور ہمارا مقصد انہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ میں برامپٹن کے فنکارانہ منظر نامے کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دینے کے لیے اپنے پہلے پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پلان کی ترقی کو دیکھ کر بہت پر جوش ہوں۔"

"برامپٹن فنکارانہ تنوع کا ایک نشان ہے، جو ایک انتہائی روشن خیال شہر ہے جہاں پرفارمنگ آرٹس ہر عمر اور پس منظر کے حامل افراد اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے مساوی طور پر اہم ہیں۔ برامپٹن بہت سی کمیونٹیوں پر مشتمل ایک گلدستے کی مانند ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہماری متنوع اور تخلیقی آبادی کی صلاحیتیں ہمارے پروگراموں میں ظاہر ہوں۔ یہ پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پلان برسوں کی کامیابی کے لیے برامپٹن کی حیثیت کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کی پرفارمنگ آرٹس ٹیم نے ایک مکمل پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پلان بنانے کے لیے عوام اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں، یہ فریم ورک پرفارمنگ آرٹس کمیونٹی کو فروغ دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد فراہم کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ برامپٹن کی روح اور تنوع کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہو۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"پرفارمنگ آرٹس ہر اس شخص کا مشکور ہے جس کی قیمتی رائے کی بنیاد پر ہمیں اپنا پہلا اسٹریٹجک پلان تیار کرنے میں مدد ملی ہے۔ اب ہم محض ایک صفحہ پر تعمیری الفاظ لکھنے سے آگے بڑھتے ہوئے متاثر کن اقدامات کی طرف، اسٹیج پر اور اس سے آگے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- سٹیون شیپر، ایگزیکٹو آرٹسٹک ڈائریکٹر، پرفارمنگ آرٹس، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)